

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سوال کا جواب

کیا زمین کا کوئی مالی معاوضہ جائز ہے؟

صالح ناتیش کو

سوال:

السلام علیکم ورحمة اللہ،

میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ دو بندوں کا زراعت میں شراکت کا کیا حکم ہے، پہلے شخص کے پاس زمین ہے جبکہ دوسرا اس کو کاشت کرتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے یا مزارعت ہے؟ میں تذبذب کا شکار ہوں، کچھ شباب نے کہا کہ یہ مزارعت ہے جبکہ بعض نے کہاں یہ جائز ہے اگر زمین کا مالک تین سال کے اندر اس کو فروخت کر سکتا ہے جو کہ اس زمین کو کاشت میں لانے کے لئے دی جانے والی مہلت ہے۔ اللہ برکت دے۔

جواب:

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ،

مزارعت زمین کو کاشتکاری کے لیے کرائے پر لینا ہے اور مزارعت کی حرمت پر کئی دلائل موجود ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

- 1- بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيُزِرَّهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " جس کے پاس زمین ہو وہ یا تو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے، اگر وہ انکار کرے تو اپنی زمین کو سنبھالے۔"
- 2- مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ " نبی ﷺ نے مخابرہ (مزارعت) سے منع کیا ہے۔"
- 3- مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ " رسول اللہ ﷺ نے زمین کی اجرت یا حصے سے منع کیا ہے۔"
- 4- رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مخابرہ (شراکت سے) کاشتکاری کرتے تھے، کہتا ہے کہ ان کا کوئی چاچا ان کے پاس آیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا ہے جس میں ہمارا فائدہ تھا مگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت تو سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا، أَوْ فَلْيُزِرَّهَا أَحَاهُ، وَلَا يُكَارِبَهَا بِنُتْلٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى " جس کے پاس زمین ہو تو اس کو چاہیے کہ خود کاشت کارے یا کاشت کے لیے اپنے بھائی کو دے، پیداوار کے تیسرے حصے کے بدلے نہ دے نہ ہی چوتھائی کے بدلے اور نہ ہی کسی خاص مقدار کے اناج کے بدلے " اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔"

5- سنن نسائی میں اسید بن زبیر سے روایت ہے کہ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: لَا، قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتَّبَنِ، فَقَالَ: لَا، وَكُنَّا نُكْرِيهَا عَلَى الرَّبِيعِ، قَالَ:

لا، اَزْرَعَهَا أَوْ اْمَنْحَهَا أَخَاكَ" رسول اللہ ﷺ نے زمین مزارعت کے لیے دینے سے منع فرمایا، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول کیا ہم اناج کی خاص مقدار کے بدلے مزارعت پر دے سکتے ہیں فرمایا: نہیں، ہم بھس کے بدلے مزارعت پر دیتے تھے فرمایا: نہیں، ہم ربیع کے بدلے مزارعت پر دیتے تھے (ربیع چھوٹی نہر) نالہ) ہوتی ہے یعنی ہم نہر کے ساتھ ساتھ پانی کی طرف زمین کو آباد کرنے کے لیے مزارعت پر دیتے تھے) فرمایا: خود کاشت کرو یا اپنے بھائی کو دو"۔

ان احادیث سے مزارعت کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ زمین کو کاشت کے لیے دینا ہے چاہے اجرت، اسی کے پیداوار کا کوئی حصہ ہو یا کچھ اور۔۔۔ اس سے مزارعت کی حرمت بھی واضح ہو جاتی ہے۔۔۔ مندرجہ بالا دلائل سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کسی بھی چیز کے بدلے زمین کو کاشت کے لیے دینا جائز نہیں خاص کر مسلم کی حدیث بالکل صریح ہے کہ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ " رسول اللہ ﷺ نے زمین پر اجرت لینے سے منع کیا یا پیداوار کا کوئی حصہ لینے سے منع کیا، اور البخاری کی حدیث مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيُزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ... " جس کے پاس زمین ہو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے، " اسی طرح نسائی کی حدیث ...اَزْرَعَهَا أَوْ اْمَنْحَهَا أَخَاكَ"۔۔۔ خود کاشت کرو یا اپنے بھائی کو دو" اس لیے زرعی زمین کا معاوضہ جائز نہیں۔

اس بنا پر آپ کے سوال میں جو کہا گیا ہے کہ "ایک کے پاس زمین ہے دوسرا اس کو کاشت کرتا ہے۔۔۔" زمین یہاں مال ہے اور اس میں حصہ ہے یعنی مزارعت کا حکم اس پر لاگو ہے اس کو شراکت کا نام دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ مزارعت ہی ہے جو کہ جائز نہیں۔ اسی طرح تین سال یا اس کے بعد کا حکم شرعی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ حکم شرعی اس عقد کے بارے میں ہے اور یہ عقد اس وقت ہی باطل ہے جب زمین کے بدلے کچھ لیا جائے چاہے اس کی نوعیت کچھ بھی ہو جیسا کہ مذکورہ دلائل سے واضح ہے۔۔۔

آپ کا بھائی،

عطاء بن خلیل ابو الرشته

19 شعبان 1437 ہجری

26 مئی 2016